

فَحَمَلَتْهُ

facamalathu

فَإِن تَبَدَّثْ بِهِ

fa –ntabadhat bihi

مَكَانًا قَمِيًّا (22)

makananA KaSiyyanA (22)

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ

fa xajAxahA –lmakhADu xilA jidhqi –nnakhlati

قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا

KAlat yA laytanI mittu Kabla hAdhA

وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا (23)

wa kuntu nasyanA mansiyyanA (23)

فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي

fa nAdAhA min tactihA xalla taczanI

قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا (24)

Kad jaqala rabbuki tactaki sariyyanA (24)

وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ

wa huzzi xilayki bi jidhqi –nnakhlati

تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا (25)

tusAKit qalayki ruTabanA janiyyanA (25)

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا

fa kulI wa –shrabI wa KarrI qaynanA

فَإِمَّا تَرِينَ مِن الْبَشَرِ أَلْحَدًا فَقُولِي

fa ximma tarayinna mina –lbashari xacadanA fa KUII

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

xinnI nadhartu li –rracmani SawmanA

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا (26)

fa lan xukallimu –lyawma xinsiyyanA (26)

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا

fa xtat bihi KawmahA tacmiluhu KAIU

يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27)

yA maryamu laKad jixti shayxan fariyyanA (27)

**Remark:** The Tanween {anA} at end of nouns is pronounced {an} or {A} at stops.